



تحائف اور عطیات

DGR کیا ہے؟

ڈیڈکٹبل گفٹ ریسپیئنٹ (DGR) ایک ایسی تنظیم یا فنڈ ہے جو ٹیکس میں کٹوتی کے قابل تحائف یا عطیات وصول کر سکتا ہے۔ تمام چیریٹیبل DGRs نہیں ہوتیں۔ مثال کے طور پر، بہت سی کراؤڈ فنڈنگ ویب سائٹس DGRs کے ذریعے نہیں چلائی جاتیں، اس لیے ان کو دیے گئے عطیات کٹوتی کے قابل نہیں ہوتے۔

آپ ABN Lookup پر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا عطیہ کسی تصدیق شدہ DGR کے لیے ہے۔

مجھے کن ریکارڈز کی ضرورت ہے؟

آپ کو ٹیکس میں کٹوتی کے قابل اپنے تمام عطیات کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے۔ اس میں یہ شامل ہو سکتے ہیں:

- عطیات یا شراکت (contributions) کے لیے رسیدیں
- اہل تنظیم کی طرف سے دستخط شدہ ایک خط حس میں آپ کے عطیے یا شراکت کی رقم درج ہو۔

جب آپ عطیہ کرتے ہیں، تو DGR عام طور پر آپ کو رسید جاری کرتا ہے - لیکن ایسا کرنا ان کے لیے لازمی نہیں ہے۔ آپ اب بھی دیگر ریکارڈز، جیسے بینک سٹیٹمنٹس کا استعمال کرتے ہوئے کٹوتی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

آپ تحفہ یا عطیہ کب کلیم کر سکتے ہیں

✓ آپ کسی تنظیم کو دیئے گئے تحفے یا عطیے کے لیے کٹوتی تب کلیم کر سکتے ہیں اگر وہ درج ذیل 4 شرائط پر پورا اترتا ہے:

- آپ تحفہ یا عطیہ کسی ڈیڈکٹبل گفٹ ریسپیئنٹ (DGR) کو دیتے ہیں
- یہ رقم یا حائیداد ہو (اس میں مالی اثاثے بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسے شیئرز)
- یہ واقعی ایک تحفہ یا عطیہ ہو (آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا آپ کسی فائدے کی توقع نہیں رکھتے)
- یہ تحفے کی تمام متعلقہ شرائط کی تعمیل کرتا ہو۔

آپ کے پاس تحفے یا عطیے کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ رسید۔

آپ کب تحفہ یا عطیہ کلیم نہیں کر سکتے

✗ آپ کسی ایسے تحفے یا عطیے کے لیے کٹوتی کلیم نہیں کر سکتے جو:

- آپ کو ذاتی فائدہ فراہم کرے (مثال کے طور پر، لائری یا ریفل ٹکٹ)
- آپ اپنی فیملی اور دوستوں کو دیں، دینے کی وجہ سے قطع نظر
- آپ سوشل میڈیا، کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز یا ممبرشپس (جیسے سپورٹس کلب کی ممبرشپ) کو دیں، جب تک کہ وہ رجسٹرڈ DGR نہ ہوں۔

یہ صرف ایک عمومی خلاصہ ہے۔

مزید معلومات کے لیے، آپ ato.gov.au/giftsdonations (انگریزی میں) ملاحظہ کر سکتے ہیں یا کسی رجسٹرڈ ٹیکس پروفیشنل سے بات کر سکتے ہیں

اگر آپ ہم سے انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو Translating and Interpreting Service کو 13 14 50 پر کال کریں۔ اگر آپ بیرون ملک سے فون کر رہے ہیں، تو 61 3 9268 8332 پر کال کریں۔

